

# روزہ

## اعتكاف

### رویت هلال

#### فطرہ

(چار مراجع کے مطابق)

مرتبہ: محمد رضا داؤدانی

[www.dawoodani.com](http://www.dawoodani.com)

# طالب بـ ۱۰۰٪

بسم الله الرحمن الرحيم

عزیز مددوده خبر رفته داد و در فن دون فوریات علاوه می بین چو  
اخطام شرطیت کو عمل کر فردا رسید که از رسمیت کر خواهی ذرا  
در درس صحبت نمی بینی . میراد کسی ذرا دو رسید که عمل متعاقب چه همراهی قشویت  
قدرتی نباشد - و آنکه فرزین موصوف که توانیت سیم اینها را فرزند نداشت .

فرماینده بمال این اتم می داشت پسر مشغول پر فوج می باشد مکلفین کو ما هد  
و صفتان در در عصیان پر دستگش می تهییں . و ضعفیت اینها از این دلایل می باشد  
قریبیت که ساقه تحریر گشته ای - و صدیده که صادقانه ذوق علم و پیشنهاده  
کرستی - و هر عضو اهیا که فتنه داشته باشد فرزید اینها را فرزین بنا که  
دانمده دخالت می اینه می بروند -

مودوده توجه کن که بر اینقدر و رگه مخصوصین معلمین و دارم مادران  
ورو در فن خود مدت علم و دین کو توانیت مدتی داشت .

از جلدی

### مقدمة

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
 الحمد لله اغلل صفات میں آپ روزے اور اعکاف سے متعلق آداب و  
 احکام پڑھیں گے۔
- فطرے اور چاند کے مسائل پہلے ہی پہلٹ کی صورت میں بعض  
 مونتین تقسیم کر رہے تھے۔ مناسب محسوس ہوا کہ ان کو بھی کتاب کے  
 اختتام پر شامل کیا جائے۔
  - اس کتاب میں درج ذیل چار مراجع کے فتاویٰ کو پیش نظر رکھا گیا:  
 ۱۔ مرحوم آیت اللہ خوئی ۲۔ مرحوم امام جمیعی  
 ۳۔ آیت اللہ سیستانی مظاہر ۴۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای مظاہر  
 چند مقامات کے سوا فتاویٰ کے اختلاف کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ کوشش کی  
 گئی ہے کہ مسائل کو احتیاط کے مطابق لکھا جائے۔
  - تفصیلات جاننے کے خواہشمند احباب تو پنج المسائل اور دیگر کتب کی  
 طرف رجوع کریں۔
  - کتاب کو Reader Friendly بنانے کے لیے مانوس الفاظ کو دوستانہ  
 انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے کو بوجھ  
 محسوس نہ ہو۔
  - اس کتاب پچھے میں بیان کردہ مستحبات رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام  
 دیجے جاسکتے ہیں۔
  - ☆ رجاء مطلوبیت یعنی: اس امید پر انجام دینا کہ یہ کام خدا کو مطلوب ہے۔

## اطہارِ تشكیر

۱۔ اس کتاب کی تیاری میں:

- (الف) ججۃ الاسلام و المسلمین جناب محمد حسین فلاح زادہ صاحب کی کتاب آموزش فقہ (سطح عالی)،
- (ب) ججۃ الاسلام و المسلمین جناب محمد رضا مشنقتی پور صاحب کی کتاب احکام آموزشی (عبادات سطح ۳) اور
- (ج) ججۃ الاسلام و المسلمین جناب سید مجتبی حسین صاحب کی کتاب احکام روزہ سے بھر پور استفادہ کیا گیا۔

۲۔ استادِ محترم ججۃ الاسلام و المسلمین مولانا علی رضا صاحب نے نظر ثانی اور ضروری تصحیح و اصلاح فرمائی ہے۔

۳۔ برادر رضا رضوی نے مفید مشوروں سے نوازا اور تکمیل کی معاونت فراہم کی۔ میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

بحق محمد و آلہ الطاهروین

محمد رضا داؤدی

۲۷ ربیعہ ۱۴۲۹ھ بہ طابق ۳۰ رائٹس ۲۰۰۸ء

## اظہار خیال

بسم تعالیٰ۔ جناب مولانا محمد رضا داؤدی صاحب کی جانب سے ترتیب شدہ اس کتابچے کا مطالعہ کیا۔ موصوف نے نئے انداز سے مسائل شرعیہ کو بیان کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اردو زبان میں یہ نئی کوشش ہے اور اس میں چار باتوں کو خاص طور پر موصوف نے مد نظر رکھا ہے:

- (۱) ایسے مسائل کو ذکر کیا جائے جو عام طور پر مومنین کو پیش آتے ہیں۔
  - (۲) مسائل کو بیان کرنے کی زبان سادہ اور عام فہم ہو۔
  - (۳) جہاں تک ممکن ہو اختلافی مسائل سے گریز کیا جائے اور احتیاط کے مطابق مسائل بیان کیے جائیں۔
- (۴) مسائل کو مختصر اور منطقی ترتیب سے بیان کیا جائے۔

ہر نئی کوشش اپنے اندر خوبیاں اور خامیاں لیے ہوتی ہے یہ ہی صورت حال اس کتابچے کے ساتھ بھی ہے، جہاں یہ کتابچہ بہت سے مومنین کی مشکلات کا حل ہو گا وہاں احتیاط کے بنا پر ترتیب پانے کی وجہ سے ممکن ہے بعض مومنین کو مالی یا بدنسی رسمت میں بیتلہ کرنے کا باعث بنے۔ لطور معمول مومنین مسائل شرعیہ کی جانب عملی ضرورت کے وقت ہی رجوع کرتے ہیں اور اس موقع پر تفصیل بھیشہ مقدور نہیں ہوتی ہے، یہ کتابچہ ایسے وقت کے لیے بہترین رہنمای ثابت ہو گا۔

آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جناب محمد رضا داؤدی صاحب کی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا ہو اور حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج کی خوشی کا موجب قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے تاکہ باقی فتحی عنادیں کو بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ عملی صورت دے پائیں۔ والسلام

ناچیز علی رضا صاحبی

لکم رمضان المبارک ۱۴۲۹ھ

## فہرست

۱۹۔ Perfumes کا استعمال.....	۷۔ روزہ .....
۱۹۔ Shampoo اور صابن .....	۷۔ مفہومِ روزہ .....
۱۹۔ تیل یا کریم لگانا.....	۷۔ اصطلاح میں اس سے مراد:۔
۱۹۔ Lipstick کا استعمال.....	۸۔ روزے کی اقسام .....
۱۹۔ خون کا عطیہ دینا.....	۹۔ واجب روزے مثلاً .....
۱۹۔ کلی کرنا .....	۱۰۔ روزے کی نیت .....
۲۰۔ غبار حلنک تک پہنچانا.....	۱۲۔ نیت کا وقت کب تک؟ .....
۲۰۔ سگریٹ وغیرہ کا استعمال.....	۱۵۔ مظلاتِ روزہ .....
۲۱۔ Inhaler کا استعمال .....	۱۶۔ اکھانا پینا .....
۲۱۔ Balm کا استعمال .....	۱۷۔ انجشن کا استعمال .....
۲۱۔ Steam (بھانپ) لینا.....	۱۷۔ ڈرپ کا استعمال .....
گرم پانی کی وجہ سے Bathroom	۱۷۔ مسوڑوں سے خون .....
میں بننے والے بخارات ....	۱۸۔ غرارے کرنا .....
بسوں اور گاڑیوں کا دھواں ...	۱۸۔ دانتوں کا علاج .....
۳۔ اللہ، انبیاء اور مخصوصین سے جھوٹ منسوب کرنا.....	۱۸۔ ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال .....
منسوب کرنے کے انداز ....	Dental Floss یا Tooth Pick
۳۔ پورا سر پانی میں ڈینا ...	۱۸۔ کا استعمال .....
۵۔ قے کرنا یا اٹی کرنا .....	۱۹۔ آنکھ اور ناک میں ڈالنے والے قطروں کا استعمال .....

۲۔ زیادہ پیاس کا مریض .....	۲۲	۶۔ استمنا کرنا.....	۲۵
۳۔ حاملہ خاتون .....	۲۳	۷۔ جماع کرنا.....	۲۷
۴۔ بچے کو دودھ پلانے والی خاتون	۲۳	۸۔ جنابت کی حالت پر اذان صحیح	
		تک باقی رہتا.....	۲۸
۵۔ بیمار .....	۲۳	عسل مس میٹ اور روزہ .....	۲۹
فقاروزے سے متعلق کچھ اور باتیں	۲۵	۹۔ خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صحیح سے پہلے	
دواہم باتیں .....	۲۷	عسل نہ کرنا.....	۳۰
ماں باپ کے فقاروزے .....	۲۸	استخادہ اور روزہ .....	۳۱
مسافر کے روزے .....	۲۹	۱۰۔ بہنے والی چیز سے ہٹنے لینا	
چند نکت.....	۲۹	۳۱	
مستحب روزہ .....	۵۱	کچھ عمومی احکام .....	۳۲
اعتكاف .....	۵۲	ماہ رمضان ... کفارہ ..	۳۳
اعتكاف کی شرائط .....	۵۲	اسی سے متعلق کچھ اور مسائل ..	۳۵
احکام اعتكاف .....	۵۳	ماہ رمضان کا فقاروزہ توڑنے کا	
اعتكاف کے دوران حرام باتیں	۵۵	کفارہ .....	۳۷
		تاخیر کرنے کا کفارہ .....	۳۹
عید کے چاند کے متعلق .....	۵۶	فديہ یعنی ”بدل“ یا ”وضع“	
خلاصہ .....	۵۹	۴۱	
فطرہ .....	۶۰	فديہ کون دیتا ہے؟ .....	۶۱
		۶۲۔ ضعیف مرد یا خاتون - .....	۶۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## روزہ

### مفہوم روزہ

- روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔
- لغت (Dictionary) میں صوم کا مطلب ہے: کسی چیز سے رکنا یا بچنا۔

اصطلاح میں اس سے مراد:

- کھانے پینے اور کچھ اور چیزوں سے بچنا۔
- کب سے کب تک؟
- اذان صبح سے اذان مغرب تک۔
- مگر کیوں؟
- حکمِ خداوندی کو انجام دینے کے لیے۔

سوال: اسے روزہ کیوں کہتے ہیں؟

جواب: کیونکہ یہ عبادت رات کی نہیں دن کی ہے اور دن کو روز کہتے ہیں۔  
لہذا اسے روزہ کہا گیا۔

## روزے کی اقسام

- ۱۔ واجب روزہ (مثال: ماہ رمضان کا روزہ)
- ۲۔ مستحب روزہ (مثال: رجب یا شعبان کا روزہ)
- ۳۔ مکروہ روزہ (مثال: عاشور کا روزہ)
- ۴۔ حرام روزہ (مثال: عید الفطر اور عید قربان کا روزہ)

توجه:

- اگر معلوم ہے کہ روزہ ضرر کا باعث ہے تو واجب روزہ رکھنا بھی حرام ہو جائے گا۔
- ضرر کی مثال: (i) معلوم ہے کہ روزہ رکھوں گا تو مرجاؤں گا یا (ii) بیماری طویل ہو جائے گی۔

سوال ۲: یہ پتہ کیسے چلے گا؟

جواب: ذاتی اطمینان کی وجہ سے

یا

سابقہ تجربوں کی روشنی میں

یا

قابل اطمینان ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے

یا

کسی اور عقلی دلیل سے

ڈاکٹر کہتا ہے کہ: Case:

(۱) روزہ نقصان دہ ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ ایسا کوئی Problem نہیں ہے۔

یا

(۲) روزہ رکھو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ میں مطمئن ہوں کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔

سوال ۳: دونوں صورتوں میں کس کی بات چلے گی؟ میری یا ڈاکٹر کی؟

جواب: آپ کی بات چلے گی۔ آپ اپنے اطبیان پر عمل کریں۔

### واجب روزے مثلاً

- ۱۔ ماہ رمضان کے روزے
  - ۲۔ قضا روزے
  - ۳۔ کفارے کے روزے
  - ۴۔ ماں باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر
  - ۵۔ نذر وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والے روزے
  - ۶۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے تیسرا دن کا روزہ
  - ۷۔ حج تمعنگ کی قبلی کے بدالے رکھے جانے والے روزے۔
- (تفصیل کے لیے مناسک حج کی طرف رجوع کریں)

## روزے کی نیت

سوال ۱: کیا روزے کی نیت ضروری ہے؟

جواب: جی ہاں۔ روزہ عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

سوال ۲: کیا نیت کچھ الفاظ کہنے کا نام ہے؟

جواب: جی نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔

سوال ۳: یہ ارادہ کیا ہو؟

جواب: میں: • اذان صبح سے اذان مغرب تک

• روزہ رکھتا ہوں۔ • فُرْبَةُ اللَّهِ

سوال ۴: فُرْبَةُ اللَّهِ یعنی؟

جواب: حکم خدا کو انجام دینے کے لیے۔ جس کے نتیجے میں لازمی طور پر خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔

سوال ۵: اذان صبح سے کیا مراد ہے؟ نماز کا وقت ہو جانے کے 15 منٹ

بعد میرے محلے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو کیا میرا روزہ اس

اذان سے شروع ہوگا؟

جواب: جی نہیں بلکہ اذان صبح سے نماز صبح کا اولین وقت ہی مراد ہے۔

نوٹ: یہ یقین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ:

(i) اس وقت سے کچھ دیر پہلے ہی لکھانا پینا وغیرہ ترک کر دیا جائے۔

(ii) مغرب کے بعد بھی کچھ دیر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔

توجہ: ماہ رمضان میں روزے کے دوران اگر اپنی نیت سے پلٹ جائے یا

جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو روزہ

ٹوٹ جائے گا چاہے پھر اسے انجام نہ دے۔

سوال ۶: رکھا جانے والا روزہ کونسا ہے؟ کیا یہ طے کرنا ضروری ہے؟ لیجنی کیا یہ کیا جاسکتا ہے کہ بغیر طے کئے روزہ رکھ لیا جائے اور بعد میں اپنی مرضی سے قضا یا کفارے کا روزہ قرار دے دیا جائے؟

جواب: جی نہیں بلکہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ قضا کا روزہ ہے یا کفارے کا یا کوئی اور۔

توجہ: ماہ رمضان میں خود بخود یہ طے ہے کہ رکھا جانے والا روزہ ماہ رمضان کا ہے کیونکہ اس میتے میں کوئی اور روزہ رکھا ہی نہیں جاسکتا۔

سوال ۷: میں بھول گیا کہ کل ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے یا 16۔ کیا اس سے بھی روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟

جواب: جی نہیں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سوال ۸: میں نے ابھی کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نیت کب تک کر سکتا ہوں؟

جواب: دیکھنا پڑے گا کہ روزہ کس قسم کا ہے۔ واجب ہے یا مختب۔ واجب ہے تو واجب کی کوئی قسم ہے۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے لیکن توجہ رہے کہ:

بعض Cases میں آپ دیکھیں گے کہ اذان صبح کے بعد بھی نیت کی اجازت ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب اذان صبح سے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔

مثال: مختب روزے کی نیت مغرب سے ایک منٹ پہلے بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن جس نے دوپہر کا لکھانا کھایا ہو وہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔

## نیت کا وقت کب تک؟

روزے کی اقسام	اذان صبح سے پہلے	ظہر سے پہلے (جان بوجھ کر کیا)	ظہر سے پہلے (جھول گیا)	ظہر سے پہلے (اطلاع نہ تھی)	ظہر کے بعد
۱۔ مستحب روزہ	✓	✓	✓	✓	(مغرب سے کچھ دیر پہلے بھی صحیح ہے)
۲۔ واجب معین روزہ مثال: • ماہ رمضان کا روزہ • نذر معین کا روزہ	x	✓	x	✓	
۳۔ واجب غیر معین روزہ مثال: • قضا روزہ • نذر غیر معین کا روزہ	x	✓	✓	✓	

معین = جس کا وقت Fix ہے غیر معین = جس کا وقت Fix نہیں ہے  
 ✓ = نیت ہو سکتی ہے، روزہ صحیح ہے x = نیت نہیں ہو سکتی وقت گزر گیا

### اہم سوال ا:

۲۹ ر شعبان کا دن ختم ہوا۔ چاند کا پتہ نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں۔ میں کیا کروں؟

جواب: • اگر چاند نظر آجائے تو کل پہلی ماہ رمضان ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے۔

• اگر چاند نظر نہ آئے تو کل ۳۰ ر شعبان ہے۔ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔

• اگر شک ہو کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں تب بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔

سوال ۲: شک کی صورت میں روزہ نہیں رکھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ چاند ہو گیا تھا۔ پھر؟

جواب: آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہاں آپ اس روزے کی قضا ادا کریں۔

سوال ۳: میں اس شک والے دن روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کس نیت سے رکھوں؟ کیا یہ نیت کر سکتا ہوں کہ اگر ماہ رمضان ہے تو اس کا روزہ ورنہ شعبان کا؟

جواب: یہ نیت نہ کریں بلکہ اگر آپ پر قضا روزہ ہے تو اس کی نیت سے ورنہ مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھیں۔

فائدہ:

اس صورت میں یہ فائدہ ہو گیا کہ بعد میں اگر پتہ چلا کہ چاند نظر آگیا تھا تو یہی روزہ خود بخود ماہ رمضان کا پہلا روزہ مان لیا جائے گا۔

سوال ۲: میں نے قضا یا مستحب کی نیت سے روزہ تو رکھ لیا مگر دن میں پتہ  
چلا کہ چاند نظر آ گیا تھا اور آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔  
میں کیا کروں؟

جواب: بس اپنی نیت کو ماہ رمضان کے روزے کی طرف پھیر دیں۔ یہی  
کافی ہے۔

## مبطلاتِ روزہ

(روزے کو توڑنے والی چیزیں)

### فہرست:

- ۱۔ کھانا پینا۔
- ۲۔ غبار حلق تک پہنچانا۔
- ۳۔ اللہ، انبیاء اور متصویں سے جھوٹ منسوب کرنا۔
- ۴۔ پورا سر پانی میں ڈبوانا۔
- ۵۔ جان بوجھ کرتے کرنا (یعنی الٹی کرنا)۔
- ۶۔ استمنا کرنا (Mastrubation)۔
- ۷۔ جماع کرنا (جنی تعلقات قائم کرنا)۔
- ۸۔ جنابت کی حالت پر اذان صبح تک باقی رہنا۔
- ۹۔ خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا۔
- ۱۰۔ کسی Liquid یعنی بہنے والی چیز سے حقنے یا انہیا کرنا۔

## مبلاطِ روزہ۔ کچھ تفصیل

- ا۔ کھانا پینا: • یعنی حلق سے نیچے اتارنا
  - حلق: جہاں سے ”خ“ کی آواز لکھتی ہے
- توجہ: صرف زبان پر کچھ رکھ کر ذائقہ پکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا

### مختلف Cases

روزہ باطل ہے	دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا تھا، اسے جان بوجھ کر نگل لیا۔	(i)
روزہ صحیح ہے	بھول گیا اور کچھ کھا لیا یا پی لیا۔	(ii)
روزہ صحیح ہے	جان بوجھ کر تھوک نگل لیا۔	(iii)
روزہ صحیح ہے	مزیدار کھانا دیکھا، منہ میں پانی بجع ہو گیا اور اسے جان بوجھ کر پی لیا۔	(iv)
روزہ صحیح ہے	• بلغم منہ میں آنے سے پہلے نگل لیا • بلغم منہ میں آنے کے بعد نگل لیا	(v)
• روزہ صحیح ہے (آیت اللہ سیستانی)		
• روزہ احتیاط واجب کی بنای پر باطل ہے۔ (آیت اللہ خوئی، امام شمینی، آیت اللہ خامنه ای)		

سوال ۱: کھاؤں گا پپوں گانہیں تو کمزوری آجائے گی۔ روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟

جواب: بھی نہیں۔

سوال ۲: کمزوری بہت بڑھ جائے گی۔ ناقابل برداشت کمزوری؟

جواب: پھر روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں قضا کو ادا کریں۔

### انجکشن کا استعمال

۱۔ بیماری میں دوا کے لیے:	جانز ہے
۲۔ جسم کے کسی حصے (Organ) کو سُن کرنے کے لیے:	جانز ہے
۳۔ غذا کی کمی یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے:	جانز نہیں

### ڈرپ کا استعمال

چاہے دوا کے لیے ہو  
یا  
غذا کی دور کرنے کے لیے

{ دنوں صورتوں میں  
روزہ باطل ہے

### مسوڑھوں سے خون

سوال ۳: مسوڑھے سے خون نکل آیا توجہ نہیں رہی اور نگل لیا۔ روزہ صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: اگر توجہ نہیں تھی اور بے اختیار نگل لیا تو روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔

سوال ۳: مسوز ہے سے نکلنے والا خون ٹھوک میں مل کر ختم ہو گیا۔ کیا اسے نگلا جاسکتا ہے؟

جواب: جی ہاں۔ اس کا نگلا روزے کو باطل نہیں کرتا۔

سوال ۵: میرے سامنے ایک روزہ دار بھولے سے کھانا کھا رہا ہے۔ کیا میرے لیے اسے روکنا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں۔

غرارے کرنا (Gargles):

جاڑبے لیکن حلق سے نیچے پانی گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔

دانتوں کا علاج

سوال ۶: Dentist (دانتوں کا ڈاکٹر) ماہ رمضان میں دانتوں کی Filling اور دوسرا متعلقہ کام کر سکتا ہے؟

جواب: جی ہاں۔

سوال ۷: اور مریض کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟

جواب: اگر مریض مطمئن ہے کہ خون، پانی یا اور کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جائے گی تو وہ روزے کے دوران علاج کرو سکتا ہے ورنہ نہیں۔

ٹوٹھ پیسٹ (Tooth Paste) کا استعمال

کوئی حرج نہیں۔ اس Paste نگل نہیں سکتے۔

Tooth Pic k Dental Floss یا Tooth Pic k کا استعمال

جاڑبے ہے۔ خیال اسی چیز کا رکھنا ہے کہ کوئی چیز نگل نہیں سکتے یعنی حلق سے نیچے کچھ نہیں جانا چاہیے۔

(آنکھوں میں ڈالنے کے قطروں) اور Eye Drops  
 (ناک میں ڈالنے کے قطروں) Nasal Drops کا استعمال  
 اس میں بھی معیار وہی ہے۔ اگر دوا حلق کے نیچے نہیں پہنچ رہی تو  
 استعمال جائز ہے۔

#### عطر اور Perfumes کا استعمال

عطر اور Perfumes کا استعمال نہ صرف روزے کو باطل نہیں کرتا  
 بلکہ یہ روزہ دار کے لیے مستحب ہے۔

#### اور صابون کا استعمال Shampoo

بالوں میں تیل ڈالنا یا کوئی کریم لگانا  
 جائز ہے۔

#### کا استعمال Lipstick

حلق کے نیچے اسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ ویسے جائز ہے۔

یا خون کا عطیہ دینا Blood Donation  
 جائز ہے اگر کمزوری کا باعث بنے تو مکروہ ہے۔ حرام بہر حال نہیں ہے۔

#### کلی کرنا

کلی کر رہا تھا۔ بے اختیار پانی حلق کے نیچے چلا گیا۔ روزہ باطل ہے سوائے  
 اس کے کہ:

- بھول گیا تھا کہ روزے سے ہے۔
- واجب نماز کے وضو کے لیے کلی کر رہا تھا۔

## ۲۔ غبار حلق تک پہنچانا:

- گاڑھا غبار حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
  - اس سے فرق نہیں پڑتا کہ غبار کس چیز کا ہے۔
  - ☆ مثلاً کسی ایسی چیز کا ہے جسے کھانا جائز ہے جیسے آٹا
  - ☆ یا ایسی چیز کا ہے جسے کھانا جائز نہیں ہے جیسے مٹی
- سوال: ا: غبار ہے مگر گاڑھا نہیں ہے۔ اس کے حلق تک پہنچانے سے بھی روزہ باطل ہوگا؟

جواب: بھی نہیں۔ (امام خمینی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنه ای)  
احتیاط واجب کی بنابر پر باطل ہے۔ (آیت اللہ خوئی)

توجہ: ان صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوگا:

- (i) غبار حلق تک نہ پہنچے (صرف منہ میں داخل ہو)
- (ii) جان بوجھ کرنہ پہنچایا ہو
- (iii) بھول گیا ہو کہ روزے سے ہے
- (iv) شک کرے کہ حلق تک پہنچایا نہیں

سوال: ۲: میں آٹے کی چکی میں کام کرتا ہوں اور آٹے کا گاڑھا غبار حلق تک پہنچتا ہے۔ کیا میں روزے کی حالت میں یہ کام کر سکتا ہوں؟

جواب: Mask یا اس جیسی کوئی اور چیز کا استعمال کر کے کام کریں تاکہ غبار حلق تک نہ پہنچے ورنہ روزہ باطل ہوگا۔

## سگریٹ وغیرہ کا استعمال

سگریٹ، سیگار، حلقہ اور پائپ جس طرح استعمال کئے جاتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

### Inhaler کا استعمال

سوال ۳: دمہ کا مریض ہوں۔ Inhaler استعمال کرنا مجبوری ہے۔ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

- جواب: • جی نہیں۔ اس صورت میں روزہ صحیح رہے گا۔  
(آیت اللہ خوئی، امام جعینی، آیت اللہ سیستانی)
- اگر Inhaler یا اسپرے کے بغیر ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا کو ادا کریں۔  
(آیت اللہ خامنہ ای)

سر یا سینے پر Balm کا استعمال کوئی بات نہیں۔ روزہ صحیح رہے گا۔

### Steam (بھانپ) لینا

سوال ۴: علاج کے لیے بھانپ لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟

- جواب: • گاز ہے بخارات Concentrated Vapours (حلق) سے نیچے نہیں جانے چاہیے۔
- اگر یہ بخارات منہ میں جمع ہو کر پانی کی شکل اختیار کر جائیں تو انھیں بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔

گرم پانی کی وجہ سے Bathroom میں بننے والے بخارات ایسے بخارات اگر سانس کے ساتھ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

### بوس اور گاڑیوں کا دھوال

اگر اطمینان تھا کہ یہ دھوال حلق تک نہیں پہنچ گا اور اتفاق سے پہنچ گیا تو کوئی بات نہیں۔ روزہ صحیح ہے۔

### ۳۔ اللہ، انبیاء اور مخصوصین سے جھوٹ منسوب کرنا:

روزہ ہو یا نہ ہو: (i) جھوٹ بولنا حرام ہے۔

(ii) کسی سے جھوٹی بات منسوب کرنا بھی حرام ہے۔

(iii) مخصوصین سے کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنے کا گناہ

اور بھی زیادہ ہے۔

سوال ۱: ان میں سے روزہ کس سے ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: اللہ سے جھوٹی بات منسوب کرنے

{ انبیاء علیہم السلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

14 مخصوصین علیہم السلام

جھوٹ منسوب کرنے کے انداز:

بولنا، لکھنا، اشارہ کرنا، کسی سوال کے جواب میں،

کرنا یا آگے Forward Email / SMS کر دینا، کسی کی جھوٹی بات

کی تائید کرنا وغیرہ۔

توجه: • جانتے بوجھتے جھوٹ منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

• سچ سمجھتے ہوئے نقل کیا بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹ تھا: روزہ صحیح ہے۔

• نہیں معلوم سچ ہے یا جھوٹ: ایسی بات نقل کرنا ہو تو حوالے کے ساتھ نقل کریں۔

سوال ۲: حالت روزہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ مگر میری قرأت خراب ہے۔

میرا کوئی ارادہ خدا سے غلط بات منسوب کرنا نہیں ہوتا۔ میری نیت

حصول ثواب ہوتی ہے۔ کیا میرا روزہ متاثر ہو گا؟

جواب: جی نہیں لیکن قرأت بہتر کرنے کی کوشش کریں۔

۳۔ پورا سر پانی میں ڈبونا:

جان بوجھ کر پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔  
توجہ: ان صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا:

(i) بھولے سے ایسا ہو گیا۔

(ii) پورا سر نہیں ڈبوایا کچھ حصہ ڈبوایا۔

(iii) آدھا سر ایک بار اور آدھا سر دوسری بار ڈبوایا۔

(iv) بے اختیار پانی میں گر گیا اور پورا سر ڈوب گیا۔

(v) کسی اور نے زبردستی ڈبو دیا۔

(vi) شک کرے کہ پورا سر ڈوبایا نہیں۔

(vii) اسی طرح نکلے یا Shower کے نیچے سرد ہونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔

(viii) اگر غوطہ خوری کا لباس پہن کر جو سر کو

ان صورتوں میں بھی روزہ میں Cover کرتا ہے۔

میں بھی روزہ میں بھی Swimming Cap صحیح رہتا ہے

یا

یا

آب دوز (Submarine) میں سفر کیا جائے

نوٹ: آیت اللہ سیستانی کے نزدیک روزے کی حالت میں پورا سر پانی

میں ڈبونا شدید کروہ ہے۔ یعنی اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن

نہ یہ حرام ہے اور نہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔

### ۵۔ قے کرنا یا اٹی کرنا (Vomitting):

- جان بوجھ کر اٹی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چاہے پیاری کی وجہ سے اٹی کرنے پر مجبور ہو۔ بے اختیار خود سے اٹی ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔
- اگر بھول جائے کہ روزے سے ہے اور اٹی کر دے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔

سوال: روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ڈکارنے کی اجازت ہے؟  
 جواب: جی ہاں۔ لیکن اگر کوئی چیز منہ میں آجائے تو جان بوجھ کر والپن نگفے کی اجازت نہیں ہے۔

## ۶۔ استمنا کرنا (Masturbation)

سوال ۱: اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: جماع سے ہٹ کر اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جس سے خود کی منی خارج ہو۔

نوٹ: اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی اور چیز یا شخص کی مدد لی یا نہیں۔

توجہ: • روزہ نہ ہوتب بھی یہ عمل حرام ہے۔ البتہ میاں یبوی کا معاملہ جدا ہے۔

- اس عمل کی وجہ سے عسل جنابت بھی کرنا پڑتا ہے۔
- حالت روزہ میں اس عمل کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
- چاہے یہ میاں یبوی کے باہمی تعلق کا نتیجہ ہو۔

سوال ۲: کیا صرف ناختم کو دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟

جواب: حرام نگاہ بہر حال حرام ہے۔ مگر صرف دیکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔

سوال ۳: شہوت (Lust) کو بھڑکانے والی فلمیں (Movies) دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟

جواب: • ایسی فلمیں دیکھنا ہر صورت میں حرام ہے چاہے ماہ رمضان ہو یا کوئی دوسرا مہینہ۔

• اگر استمنا کے ارادے سے دیکھا جائے اور منی خارج ہو جائے تو روزہ باطل ہو گا۔

سوال ۴: اگر روزے کی حالت میں بے اختیار متی خارج ہو جائے مثلاً نیند کی حالت میں تو کیا پھر بھی روزہ باطل ہوگا؟

جواب: بھی نہیں۔

سوال ۵: کیا ایسی صورت میں روزہ دار کے لیے فوراً غسل کرنا ضروری ہوگا؟

جواب: • بھی نہیں۔

• بس نماز کے لیے غسل ضروری ہوگا۔

• البتہ جلد غسل کرنا بہتر تو ہے۔

سوال ۶: روزہ دار کو پتہ ہے کہ سویا تو منی خارج ہو جائے گی۔ کیا پھر بھی وہ سوکلتا ہے؟

جواب: بھی ہاں۔ پھر بھی سوکلتا ہے۔

## ۷۔ جماع کرنا یعنی جنسی تعلقات قائم کرنا:

- اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔
- جماع کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دیگر لذتوں کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- منی کے علاوہ جو دیگر رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ، ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔

سوال ۱: شوہر روزے سے نہیں ہے جبکہ بیوی کا واجب روزہ ہے۔ کیا شوہر بیوی کو جماع پر مجبور کر سکتا ہے؟

جواب: بھی نہیں۔

سوال ۲: نیا شادی شدہ جوڑا ماہ رمضان میں ہنی مون کے لیے کسی اور ملک روانہ ہوا۔ کیا یہ دن میں ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟

- اگر دس دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر کے احکام Apply ہوں گے یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس صورت میں دن میں ازدواجی تعلقات قائم تو کئے جاسکتے ہیں مگر یہ مکروہ ہے۔
- اگر دس دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہو گا۔

۸۔ جنابت کی حالت پر اذان صبح تک باقی رہنا:

- جنب ہونے کے بعد اگر اذان صبح سے پہلے پہلے غسل نہ کیا جائے یا اگر اس کی ذمے داری تیمّم ہے اور تیمّم نہ کیا جائے تو بعض صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو گا۔

وضاحت:

- اگر جان بوجھ کر غسل / تیمّم نہ کرے تو اگر:

روزہ ماہ رمضان کا ہے	☆
یا	☆
ماہ رمضان کی قضا کا ہے	☆

سوال ۱: مسحوب روزہ ہے: روزہ صبح ہے۔

سوال ۱: اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور کچھ دنوں بعد اسے یاد آئے تو؟

ان تمام روزوں کی	☆
اور	☆
تمام نمازوں کی بھی	☆

سوال ۲: ماہ رمضان ہے۔ زید جنب ہو گیا۔ جانتا ہے کہ اگر سو گیا تو اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہو گا۔ کیا سو سکتا ہے؟

جواب: • بھی نہیں۔ اس پر واجب ہے کہ پہلے غسل کرے پھر سوئے۔  
• اگر غسل کئے بغیر سو گیا اور اذان صبح کے بعد بیدار ہوا تو روزہ باطل ہو گا۔

**سوال ۳:** ماہ رمضان کی رات ہے۔ زید جب نہیں ہے۔ سو گیا آنکھ کھلی تو اذان صبح ہو چکی تھی اور وہ نیند میں جب ہو چکا تھا۔ نہیں پتہ کہ اذان صبح سے پہلے منی خارج ہوئی یا بعد میں۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟  
**جواب:** چاہے اذان صبح سے پہلے جب ہوا ہو یا بعد میں اس کا روزہ صحیح ہے۔

**سوال ۴:** جان بوجھ کر غسل کو Delay کیا یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت اتنا کم رہ گیا کہ اب غسل تو نہیں ہو سکتا کیا کرے؟  
**جواب:** اس نے گناہ کیا۔ لیکن اس پر واجب ہے کہ تمیم کر کے روزہ رکھے۔

**سوال ۵:** کیا اسی تمیم سے نماز فجر بھی پڑھ سکتا ہے؟  
**جواب:** بھی نہیں۔ جب پانی موجود ہے اور وقت بھی ہے تو غسل کرنا ضروری ہوگا۔

### غسل مس میت اور روزہ

- غسل مس میت یعنی وہ غسل جو میت کو چھونے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔
- اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہے تو بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔
- نماز پڑھنے کے لیے غسل مس میت بہر حال ضروری ہے۔

۹۔ خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد  
اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا:

اگر کوئی خاتون اذان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے  
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ:

- الف) ۰ اذان صبح سے پہلے پہلے غسل کرے۔
- ۰ وقت کم ہے، غسل ممکن نہیں ہے تو تمیم کرے۔

ب) اس دن کا روزہ رکھے۔

سوال ۱: کیا اس تمیم سے فجر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے؟

جواب: جی نہیں۔ پانی ہے تو غسل کرنا ہوگا۔

سوال ۲: تمیم بھی نہ کرے تو کیا روزہ باطل ہوگا؟

جواب: جی ہاں۔ ماہ رمضان اور اس کی قضا کا روزہ باطل ہوگا۔ مستحب روزہ بغیر تمیم کے بھی صحیح ہے۔

سوال ۳: اگر خاتون دن میں کسی وقت پاک ہوتی تو؟

جواب: اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں قضا کو ادا کرے۔

سوال ۴: اگر روزے کے دوران حیض یا نفاس کی حالت شروع ہو جائے تو؟

جواب: روزہ باطل ہے چاہے مغرب بہت نزدیک ہو۔ اس روزے کی قضا کو ادا کرے۔ واضح رہے کہ اس صورت میں خاتون پر کوئی گناہ نہیں۔

سوال ۵: خاتون اذان صبح سے پہلے پاک تو ہو گئی لیکن وقت اتنا کم ہے کہ نہ غسل ہو سکتا ہے نہ تمیم؟

جواب: پھر بغیر غسل و تمیم کے بھی روزہ صحیح ہے۔

سوال ۶: اذان صبح کے بعد پتہ چلا کہ اذان سے پہلے ہی پاک ہو چکی تھی؟

جواب: اگر اب تک روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو روزہ صبح  
ہے ورنہ باطل ہے۔ البتہ بعد میں قضا کو ادا کرے۔

سوال ۷: اپنی ماہنہ عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کیا خواتین Tablets  
وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں؟

جواب: اگر یہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو جائز ہے۔

#### استحاصہ اور روزہ

اس صورت میں خاتون اگر واجب ہونے والے تمام عمل انجام  
دے تو اس کے روزے بالکل صحیح ہیں۔

نوت: اس کی تفصیل تو صحیح المسائل میں موجود ہے۔

۱۰۔ کسی Liquid یعنی بہنے والی چیز سے ہٹنہ (Enema) لینا:

- ہٹنہ (Enema): یعنی قبض (Constipation) کو دور کرنے کے لیے (مقدار) پاخانے کے مقام سے دوائی کو داخل کرنا۔ یہ دوائی ٹھوس بھی ہوتی ہے اور مائع (Liquid) بھی۔

- چاہے بیماری کی وجہ سے استعمال پر مجبور ہو، کسی مائع (Liquid) یعنی بہنے والی چیز سے ہٹنہ لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔  
توجہ: کسی ٹھوس چیز سے ہٹنہ لینا روزے کو باطل نہیں کرتا۔

## کچھ عمومی (General) احکام

۱۔ اگر مظلات روزہ میں سے کوئی بھی بھولے سے انجام دیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔

۲۔ اگر بھولے سے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور پھر یہ صحیت ہوئے کہ روزہ تو باطل ہو ہی گیا ہے جان بوجھ کر کھانپی لیا یا کوئی اور روزے کو باطل کرنے والا کام کیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔

۳۔ اگر کوئی زبردستی کرے مثلاً کسی کو کچھ کھلا دے یا زبردستی پانی میں دھکا دے دے اور پورا سر پانی میں ڈوب جائے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن

اگر مجبور کرے کہ روزہ دار خود اس کام کو انجام دے مثلاً حکمی دے کہ کھانا کھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا اور روزہ دار پستول کی گولی کھانے کی بجائے اپنے ہاتھ سے کھانا کھالے تو اس نے بالکل صحیح کام کیا اور کچھ گناہ نہیں کیا مگر روزہ بہر حال باطل ہو گا اور بعد میں قضا کو ادا کرنا ہو گا

توجہ:

اگر ماہ رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزے کو باطل کر لیا تو بھی مغرب تک کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی اور ایسا کام کرنے کی اجازت ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔

## ماہِ رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کفارہ

- جان بوجھ کر ماہِ رمضان کا روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی صورت میں جو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔

سوال: کفارے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟

جواب: الف) ایک غلام آزاد کرنا

یا

- ب) 60 روزے رکھنا جن میں سے 31 پے در پے رکھنا ضروری ہیں

یا

ج) 60 مومن فقیروں کو کھانا کھلانا

توجه: اگر روزہ کسی الیکی چیز سے توڑا جو ویسے ہی حرام ہے مثلاً شراب پی کر یا زنا کر کے، تو تینوں کفارے واجب ہوں گے۔

سوال: آج کل تو ویسے غلام نہیں پائے جاتے جن کو شرعاً غلام کہا جاسکے؟

جواب: صحیح بات ہے۔ اس لیے باقی دو Options ہی باقی رہیں گے۔

سوال: 60 فقیروں کو کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: الف) کھانا تیار کر کے 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھایا جائے۔

یا

- ب) 60 فقیروں کو 750 گرام یعنی تقریباً 3 پاؤ آٹا یا چاول دے دیا جائے۔

نوٹ:

- ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔
- اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں گے۔

• یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔

سوال ۲: کیا 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے؟ ایک ہی فقیر کو 60 کفارے دے دینے سے ذمے داری پوری ہو جائے گی؟

جواب: جی نہیں 60 کا عدد پورا ہونا ضروری ہے۔

سوال ۵: کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟

جواب: روزہ نہیں رکھایا رکھ کے توڑ دیا

اس صورت میں ☆ یہ کام جان بوجھ کر کیا

روزے کی قضا اور

بھی ادا کرنا ہوگی ☆ اپنے اختیار سے کیا۔ کسی نے

اور کفارہ بھی مجبور نہیں کیا تھا۔

دینا ہوگا۔ اور

کوئی شرعی عذر (Excuse) مثلاً ☆

بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی۔

توجہ:

اگر علم ہی نہیں تھا کہ اس کام کو انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو بھی روزہ باطل ہے اور بعد میں تقاضا رکھنا واجب ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ:

- ان دو صورتوں  
میں روزہ باطل ہے  
اور قضا کے ساتھ  
کفارہ ادا کرنا  
بھی واجب ہے
- ☆ مسئلہ سمجھنے میں کوتاہی کی تھی اور انجام دیتے وقت اس بات کا تصور ابہت ہی سہی اندازہ تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا
- ☆ اللہ اور مخصوص میں کی طرف کسی جھوٹی بات کو کو منسوب کیا اور پتہ نہیں تھا کہ اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

### اسی سے متعلق کچھ اور مسائل

۱۔ ایک دفعہ مظلات روزہ میں سے کوئی کام انجام دیا، روزہ باطل ہو گیا اور کفارہ واجب ہو گیا۔

سوال: اگر واپس کوئی ایسا کام انجام دیا جو مظلات روزہ میں شامل ہے تو کیا کفارہ بھی دگنا (double) ہو جائے گا؟

جواب: جی نہیں۔ سوائے جماع کے۔ یعنی جتنی بار بخشی تعلقات قائم کئے اتنی بار کفارہ ادا کرنا ہو گا۔

سوال نمبر ۲: روزہ توڑ کر دوسرے شہر سفر پر چلا گیا۔ کیا اس سے کفارہ ختم ہو جائے گا؟

جواب: جی نہیں۔

سوال نمبر ۳: کیا کفارہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں۔ مگر اتنا Delay بھی نہ کریں کہ کوتاہی ثمار ہو۔ یعنی ایسا نہ لگے کہ اسے تو کفارے کی پرواہی نہیں ہے۔

سوال نمبر ۴: ایک سال گذر گیا۔ میں نے کفارہ ادا نہیں کیا۔ اس تاخیر کی وجہ سے تو کفارے میں مزید کچھ اضافہ نہیں ہو گا؟  
جواب: بھی نہیں۔

سوال نمبر ۵: مجھ پر کفارہ واجب ہے مگر نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی 60 فقیروں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ میں کیا کروں؟

جواب:

- جتنے فقیروں کو کھلا سکتے ہیں کھلائیں اور **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** کہہ کر استغفار کریں۔
- اگر ایک فقیر کو بھی نہیں کھلا سکتے تو صرف **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** کہہ کر استغفار کریں۔
- بعد میں جب ممکن ہو اس کفارے کو کامل کریں۔

سوال نمبر ۶: غیر سید کا کفارہ سید کو دیا جا سکتا ہے؟

جواب: دینا جائز تو ہے مگر بہتر ہے کہ یہ نہ کریں۔

سوال نمبر ۷: مومن فقیر یعنی؟

جواب: مومن: بارہ امامی شیعہ۔

فقیر: جس کے اپنے معاشرتی حیثیت (Social Status) کے لحاظ سے خرچ زیادہ اور آمدی کم ہو۔

## ماہِ رمضان کا قضا روزہ توڑنے کا کفارہ

اہم بات: اس ماہِ رمضان میں قضا ہونے والے روزے اگلے ماہِ رمضان سے پہلے رکھنا ضروری ہیں۔  
ماہِ رمضان کا قضا روزہ رکھا:

- ظہر سے پہلے پہلے اجازت ہے۔ روزہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ لیکن ظہر کے بعد یہ روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
- توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی دینا ہو گا۔

توجه: جیسا کہ بیان ہوا۔ قضا روزہ ظہر سے پہلے توڑا جاسکتا ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب وقت میں گنجائش ہو مثلاً 5 قضا روزے باقی ہیں اور ماہِ رمضان کے آنے میں بھی 20 دن باقی ہیں۔ لیکن

اگر 5 قضا روزے باقی ہیں اور 5 ہی دن ماہِ رمضان کے آنے میں باقی ہیں تو ظہر سے پہلے بھی قضا روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔  
سوال: میں کسی مرحوم کے قضا روزے اجرت پر رکھ رہا ہوں۔ کیا میرے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ میں ظہر کے بعد روزہ نہیں توڑ سکتا؟  
جواب: جی نہیں۔ آپ ظہر کے بعد بھی روزہ توڑ سکتے ہیں۔

سوال ۲: قضا روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

- جواب:
- دس مومن فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا  
یا
  - انھیں 750 گرام یعنی تین پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ دینا
  - اگر یہ ممکن نہیں ہے تو 3 روزے پے در پے رکھے۔

نوٹ:

- ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔

• اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا  
ونغیرہ ہی لیں گے۔

• یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔

• 10 فقیروں کا عدد پورا کرنا ضروری ہے ایک فقیر کو  
10 کفارے نہیں دیئے جاسکتے۔

سوال نمبر ۳: مومن فقیر یعنی؟

جواب: مومن: بارہ امامی شیعہ۔

فقیر: جس کے اپنے معاشرتی حیثیت (Social Status) کے

لحاظ سے خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہو۔

## تاخیر کرنے کا کفارہ (Delay)

- جیسا کہ بیان ہوا، اس ماہ رمضان میں قضا ہونے والے روزے اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رکھنا ضروری ہیں۔
- زید بیمار تھا۔ ماہ رمضان کے ۵ روزے نہیں رکھ سکا۔ ماہ رمضان کے بعد:

☆ زید ٹھیک ہو گیا مگر قضا روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آگیا۔

یا

- ☆ اگلے ماہ رمضان کے آنے میں 5 دن رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ 5 ہی روزے قضا تھے۔ زید روزے رکھنا بھی چاہتا ہے مگر بیمار پڑ گیا اور نہ رکھ سکا۔

- ان دونوں صورتوں میں زید پر ضروری ہے کہ اب قضا کے علاوہ تاخیر کا کفارہ بھی ادا کرے۔

تجہ: (i) ہم نے زید کی بیماری کا تذکرہ صرف مثال کے طور پر کیا ہے۔ بیماری نہ ہو گئی اور Problem ہو میا۔ سفر وغیرہ تو بھی مسئلہ یہی رہے گا۔

(ii) جان بوجھ کر بھی کسی نے روزہ چھوڑا یا توڑا تو اس کی ذمے داری ہے کہ قضا تو اگلے ماہ رمضان سے پہلے ہی انجام دے ورنہ اسے بڑے کفارے کے ساتھ تاخیر کا کفارہ بھی دینا ہو گا۔

سوال ۱: تاخیر کرنے کا کفارہ کتنا ہے؟

جواب: ہر روزے کے بد لے 750 گرام یعنی تین پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ کسی مومن فقیر کو دے۔

- نوت: • ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔
- اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں گے۔
- یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔
- ایک ہی شخص کو کئی دونوں کا کفارہ دیا جاسکتا ہے۔
- تاخیر کا کفارہ بس ایک بار لگتا ہے۔ اس کے بعد اگر مزید ایک سال کی تاخیر کر دی جائے تو تاخیر کے کفارے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔

سوال نمبر ۲: مومن فقیر یعنی؟

جواب: مومن: بارہ امامی شیعہ۔

فقیر: جس کے اپنے معاشرتی حیثیت (Social Status) کے

لحاظ سے خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہو۔

## فردیہ یعنی ”بدل“ یا ”عوض“

سوال ۱: کس کا بدل؟ کس کا عوض؟

جواب: روزہ نہ رکھنے کا بدل یا عوض۔ اس کی کچھ شرائط ہیں:

فردیہ کون دیتا ہے؟

- ۱۔ ضعیف مرد یا خاتون۔
- ۲۔ زیادہ بیاس کے مرض میں بنتلا افراد۔
- ۳۔ حاملہ خاتون۔
- ۴۔ بچے کو دودھ پلانے والی خاتون۔
- ۵۔ وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور بیماری اگلے ماہ رمضان تک طول پکڑ گئی۔

## کچھ تفصیل

### ۱۔ ضعیف مرد یا خاتون:

وہ خواتین و حضرات جو بڑھاپے کی وجہ سے:

- روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے      

ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یہ ہر روزے روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے	یا کے بدلتے فدیہ دیں گے۔
--	-----------------------------

توجہ: • سال کے دوران کسی اور موسم میں جبکہ موسم ٹھنڈا ہے، دن چھوٹے ہیں اور روزہ رکھنا ممکن ہو تو قضا کو ادا کرنا بھی واجب ہو گا ورنہ نہیں۔

### ۲۔ زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں بیتلہ افراد:

وہ افراد جو زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں بیتلہ ہیں اور اس وجہ سے:

- روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے      

ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یہ بھی روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے	یا ہر روزے کے بدلتے فدیہ دیں گے
--	---------------------------------------

توجہ: • ان کے لیے بھی اگر سال کے دوران کسی اور موسم میں روزہ رکھنا ممکن ہو تو قضا کو ادا کرنا واجب ہو گا۔

### ۳۔ حاملہ خاتون:

جن کا Delivery (وضع حمل) کا وقت قریب ہے اور روزہ رکھنا:

- ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے
- خود اپنے لیے ہر روزے کے بد لے فدیہ دیں۔
- بچے کے لیے بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو قضا بھی ادا کریں۔

### ۴۔ بچے کو دودھ پلانے والی خاتون:

جن کا دودھ کم ہو، نہ کوئی دوسرا دودھ پلانے والی خاتون

Available ہو، نہ ڈبے کا دودھ بچے کے لیے مناسب ہو اور

اُن کا روزہ رکھنا:

- ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے
- خود اپنے لیے ہر روزے کے بد لے فدیہ دیں۔
- بچے کے لیے بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو قضا بھی ادا کریں۔

### ۵۔ بیمار:

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ان پر قضا واجب نہیں | وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے |
| ہے۔ یہ بس ہر روزے   | روزہ نہیں رکھا                |
| کے بد لے فدیہ دیں   | اور                           |
| گے۔                 | اس کی بیماری اگلے ماہ رمضان   |
|                     | تک طول پکڑ گئی۔               |

توجہ:

(i) اگر کسی اور وجہ سے مثلاً سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور سارا سال سفر ہی میں رہا یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آگیا تو اس پر قضا ہی واجب ہے۔ اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا۔

(ii) اسی طرح اگر عذر بدل جائے مثلاً بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا۔ بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی اور اس کی جگہ سفر نے لے لی یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آگیا۔ اس صورت میں بھی قضا ہی واجب رہے گی اور فدیہ واجب نہیں ہوگا۔

سوال 1: فدیہ کتنا ہوتا ہے؟

جواب: ہر روزے کے بد لے 750 گرام یعنی تین پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ کسی مومن فقیر کو دے۔

- نحوث: • ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا۔
- اگر رقم دینی ہے تو انھیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں گے۔
- یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے۔
- ایک ہی شخص کو کئی دونوں کافدیہ دیا جاسکتا ہے۔
- فدیہ میں ایک بارگزار ہے۔ اس کے بعد اگر مزید ایک سال کی تاخیر کر دی جائے تو فدیے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔
- مومن فقیر کے بارے میں وضاحت پہلے کئی بارگزار چکی ہے۔

## قضايا روزے سے متعلق کچھ اور باتیں

۱۔ پاگل ٹھیک ہو گیا۔ پاگل پن کے زمانے کے قضا روزے رکھنا واجب نہیں ہے۔

۲۔ کافر مسلمان ہو گیا۔ کفر کے زمانے کے قضا روزے رکھنا واجب نہیں ہے۔

توجہ: اگر مسلمان کافر ہو جائے اور پھر واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے تو کفر کے زمانے کے قضا روزے رکھنا ضروری ہو گا۔

۳۔ اگر انسان مست یا مددوш ہو جائے اور روزہ نہ رکھ سکے تو ان کی قضا واجب ہو گی۔

توجہ: اس سے فرق نہیں پڑتا کہ:

(i) یہ مددوش شراب پینے کی وجہ سے تھی یا دوا یا کسی اور وجہ سے۔

(ii) جان بوجھ کر استعمال کیا تھا، علاج کی غرض سے پیا تھا یا کسی اور وجہ سے۔

۴۔ قضا روزوں کی تعداد:

سوال: یاد نہیں ہے۔ شک ہو رہا ہے کہ 5 روزے قضا ہوئے تھے یا 6۔ میری ذمے داری کیا ہے؟

جواب: جتنے روزوں کے بارے میں سو فیصد یقین ہے اتنے قضا روزے رکھیں۔

قضا روزوں میں ترتیب - ۵

روزے	{	مجھ پر ۱۴۲۷ھ کے ماہ رمضان کے ۵
باقی ہیں		اور

۱۴۲۸ھ کے ماہ رمضان کے ۴

سوال ۲: قضا روزے رکھتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پہلے ۱۴۲۷ھ والے قضا روزے رکھوں اور بعد میں ۱۴۲۸ھ والے۔ یا میری مرضی پر ہے؟

جواب: بس اتنا خیال رہے کہ اگر ۱۴۲۹ھ کا ماہ رمضان آنے میں 4 دن باقی ہیں تو پھر ۱۴۲۸ھ والے 4 روزے پہلے رکھنا واجب ہے۔

اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔

Case - ۶

کسی نے پیاری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور

اس سے پہلے کہ ماہ رمضان ختم ہوتا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔

سوال ۳: کیا یہ روزے اس کے قضا مانے جائیں گے؟

جواب: جی نہیں۔

## دواہم باتیں

### Case - ۱

بچی بالغ ہوئی ہے۔ بیمار نہیں ہے مگر روزہ رکھنے سے کمزوری محسوس کرتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ سلسلہ سارا سال رہتا ہے۔  
یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ جاتا ہے۔

سوال ۱: کیا اس پر قضا معاف ہے؟

جواب: جی نہیں قضا باقی ہے۔ البتہ فدیہ واجب نہیں ہے۔

### Case - ۲

جوانی میں روزے نہیں رکھے اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ توبہ کر چکا ہوں۔  
مگر قضا روزے نہیں رکھ سکتا۔

سوال ۲: کیا مجھ پر سے قضا ساقط ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۳: زندگی میں کسی کو اچیر بنا سکتا ہوں کہ وہ میرے روزے  
اجرت پر رکھ لے۔

جواب: جی نہیں۔ وصیت کریں تاکہ انتقال کے بعد ورثاء اس  
سلسلے میں کچھ اقدام کر سکیں۔

اگر چاہیں تو انتقال کے بعد  $\frac{1}{3}$  مال میں سے اجرت پر  
روزے رکھوانے کی وصیت کر دیں۔

## ماں باپ کے قضا روزے

- ۱۔ بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ماں باپ کے قضا روزے رکھے یا کسی سے رکھوائے (چاہے اس کے لیے رقم خرچ کرنا پڑے)
- ۲۔ بڑے بیٹے سے مراد:
- ماں باپ کے انتقال کے موقع پر زندہ بیٹوں میں جو سب سے بڑا ہے وہ مراد ہے۔
  - یہ سب سے بڑا ہونے کے باوجود ممکن ہے اس بھائی سے چھوٹا ہو جس کا انتقال ماں باپ کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔
  - بیٹیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
- ۳۔ ماں یا باپ کے جن قضا روزوں کا یقین ہے بس وہی بڑے بیٹے پر واجب ہوں گے۔
- جن کے بارے میں تک ہے وہ واجب نہیں ہیں۔
- ۴۔ اگر بڑا بیٹا ان قضا روزوں کو نہ رکھے یا رکھنے سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو دوسرے بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
- سوال ا: میں بڑا بیٹا ہوں۔ مجھ پر اپنے بھی قضا روزے ہیں اور مرحوم والد صاحب کے بھی۔ کون سے روزے پہلے رکھوں؟
- جواب: دونوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے کسی کو بھی پہلے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے قضا روزے گذشتہ ماہ رمضان کے ہیں اور آئندہ ماہ رمضان سر پر ہے یعنی اتنے ہی دن بچے ہیں جتنے روزے آپ پر باقی ہیں تو ان کو پہلے رکھنا ضروری ہے۔

## مسافر کے روزے

شرائط مکمل ہوں تو مسافر کے لیے:

(الف) ۴ رکعتی نمازیں (ظہر، عصر، عشاء)

2 رکعتی ہو جاتی ہیں

اور

(ب) روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ بعد میں قضا روزوں کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔

نوث: ان شرائط کی تفصیل جانے کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔

### چند نکات:

۱۔ ماہ رمضان میں سفر کرنا حرام نہیں ہے لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے۔

۲۔ ماہ رمضان میں مسافر اور اسی طرح ہر اس شخص کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے پہیٹ بھر کر کھانا کھانا اور جماع کرنا مکروہ ہے۔

۳۔ اگر روزہ دار ظہر کے بعد سفر کرے تو اس دن کا روزہ مکمل کرنا واجب ہے۔

۴۔ اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو روزہ باطل ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ارادہ رات سے تھا یا نہیں۔

☆☆ اس صورت میں بھی کھانا پینا وغیرہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک حد تر خص تک نہ پہنچ جائے۔

سوال ۱: حد ترخص یعنی؟

جواب: وہ جگہ جہاں سے نہ اذانِ شہر نئی دے اور نہ شہر کی دیوار کھائی دے۔

۵۔ اگر مسافر ظہر سے پہلے طلن پہنچ جائے

اس نے مظلات روزہ میں سے کسی پر عمل نہیں کیا ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے اگر ایسا کوئی کام کیا ہے یا ظہر کے بعد داخل ہو تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا بعد میں قضا رکھے۔

ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 10 دن ٹھہرنا ہے تو اگر:

## مستحب روزہ

**سوال ۱:** جس پر ماہ رمضان کا قضا روزہ ہے کیا وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟

**جواب:** جی نہیں۔

**سوال ۲:** کوئی اور روزہ مثلاً کفارے یا نذر کا باقی ہے۔ کیا مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟

**جواب:** جی ہاں۔ (آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی)

**جی نہیں۔** (امام خمینی، آیت اللہ خامنہ ای)

**سوال ۳:** میں نے مستحب روزہ رکھا اور ایک مومن دوست نے مجھے کھانے پر Invite کر لیا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ دعوت قبول کر کے روزہ توڑ دینا یا روزہ مکمل کرنا؟

**جواب:** دعوت قبول کر کے مستحب روزہ توڑ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔

**سوال ۴:** بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ سکتی ہے؟

**جواب:** جی نہیں۔

## اعتكاف

**اعتكاف** یعنی: مسجد میں کچھ شرائط کے ساتھ ٹھہرنا۔ یہ ایک مستحب

عبادت ہے۔

**معتكف** یعنی: اعتكاف کرنے والا۔

سوال ۱: کیا اعتكاف واجب بھی ہو سکتا ہے؟

جواب: نذر (منت)، قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہو سکتا ہے۔

**اعتكاف کی شرائط:**

۱۔ معتکف عاقل ہو:

پاگل کا اعتكاف صحیح نہیں۔

۲۔ نیت:

قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ۔ یعنی خدا کے ایک مستحب حکم

کو انجام دینے کے لیے اعتكاف کرتا ہوں۔

۳۔ واضح رہے کہ نیت ارادے کا نام ہے۔

زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔

۴۔ معتکف کا روزہ دار ہونا:

۵۔ اعتكاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

۶۔ یہ روزہ چاہے ماہ رمضان کا ہو یا دوسرے

مہینوں میں قضا یا مستحب کی نیت سے۔ اس

سے فرق نہیں پڑتا۔

۷۔ اعتكاف کی مدت: کم از کم ۳ روز۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں۔

۵۔ اعتکاف کس مسجد میں ہو؟

(i) مسجد الحرام (خانہ کعبہ والی مسجد)۔

(ii) مسجد نبوی (جہاں روضۃ رسول ہے)۔

(iii) مسجد کوفہ

(v) مسجد بصرہ

(i) اس کے علاوہ شہر کی جامع مسجدوں میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے  
اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۲: رجاء مطلوبیت یعنی؟

جواب: اس امید پر کہ یہ کام خدا کو مطلوب ہے۔

سوال ۳: جامع مسجد یعنی؟

جواب: وہ مسجدیں جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں۔

سوال ۴: کیا اس مسجد میں نماز جمعہ ہونا بھی ضروری ہے؟

جواب: بھی نہیں۔

۶۔ چند افراد کے لیے اجازت لینا ضروری ہے:

مثال: (i) بیوی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ شوہر

سے اجازت لے۔

(ii) ماں باپ کو اذیت ہو رہی ہو تو اولاد پر ضروری ہے کہ

اعتكاف کے لیے ان کی اجازت لے۔

۷۔ دوران اعتکاف، مسجد میں رہنا اور باہر نہ جانا۔

## احکام اعتکاف

سوال نمبر ۱: میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اعتکاف کب سے شروع ہوگا؟

نیت کب سے کروں؟

جواب: فرض کریں آپ بدھ، جمرات اور جمعہ یہ تین دن اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔

- اعتکاف کا آغاز بدھ کو اذان صبح سے ہوگا۔

- یعنی اس سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں اور نیت کر لیں۔

- اعتکاف ختم ہوگا جمعہ کی مغرب پر۔

- یعنی تین دن اور دو راتیں مسجد میں تھہرنا ہوگا۔

خلاصہ (i) بدھ (اذان صبح سے آغاز) پورا عرصہ مسجد میں

(ii) جمرات تھہرنا ضروری ہے

(iii) جمعہ (اذان مغرب پر اختتام)

- مستحب اعتکاف پہلے اور دوسرے دن توڑنا جائز ہے۔

- تیسرا دن شروع ہونے کے بعد اعتکاف نہیں توڑا جاسکتا۔

- اسی طرح چوتھے اور پانچویں دن توڑا جاسکتا ہے چھٹا دن

- شروع ہونے کے بعد نہیں توڑا جاسکتا۔

خلاصہ هر تیسرا دن اعتکاف نہیں توڑا جاسکتا۔

۳۔ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر چلا گیا:

اعتكاف باطل (الف) جان بوجھ کر

ہے چاہے مسئلہ اور

معلوم تھا یا نہیں۔ (ب) اپنے اختیار سے

### استثناء (Exception):

اگر کسی عقلی، شرعی یا عرفی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر جائے تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔

عقلی ضرورت	مثلاً
شرعی ضرورت	مثلاً
عرفی ضرورت	مثلاً
جنازہ میں شرکت کے لیے	پیار کی عیادت کے لیے،

اعتکاف کے دوران حرام ہے:

- ۱۔ جماع کرنا (جنی تعلقات قائم کرنا)
- ۲۔ کوئی اور جنسی لذت لینا حتیٰ کہ لذت کے ساتھ چھوٹا بھی حرام ہے۔
- ۳۔ استمنا (Masturbation)۔
- ۴۔ خوبصورتی کا استعمال۔
- ۵۔ خرید و فروخت۔
- اگر کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے پر مجبور ہو تو جائز ہے۔
- ۶۔ تجارت کرنا (Business)۔
- ۷۔ غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بڑائی جاتانے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا۔
- دینی موضوعات پر بحث کرنا خوشودی خدا کے لیے جائز ہے۔
- ۸۔ کسی کو زبردستی اٹھانا اور خود بیٹھ جانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح عصبی بستر پر سونا بھی حرام ہے۔

## عید کے چاند کے متعلق سوالات اور جوابات

آج 29 / رمضان کا دن ہے۔ کچھ دیر میں افطار ہونے والا ہے۔  
نبی ملکوم چاند نظر آئے گا نہیں؟

کل ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہوگی۔  
ہمیں ایک اور روزہ رکھنے کا موقع ملے گا کیا کل عید ہوگی !!!

آگے اس حیرت کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

•

میں جنتۃ الاسلام و المسلمین مولانا شاہد کاشفی صاحب کا شکر گزار ہوں  
جنہوں نے کتاب کے اس حصے کی اصلاح فرمائی ہے۔  
دواوہ دانی

•

سوال ۱: کیا میرے لیے چاند کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۲: اگر مجھے پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو دوسروں کو بتانا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۳: میں نے چاند خود دیکھا ہے۔ کیا مجھے کل عید منانے کا حق ہے؟

جواب: جی ہاں۔ آپ عید کل ہی منائیں گے۔ یہ ضروری ہے۔

سوال ۴: عید منانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟

جواب: بس دو چیزوں کا خیال رکھیں:

(الف) اگر فطرہ واجب ہے تو وہ نکالیں۔

(ب) عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔

سوال ۵: اور عید کی نماز؟

جواب: غیبت امام میں واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے۔

سوال ۶: نئے کپڑے ۔۔۔۔۔؟

جواب: واجب نہیں ہے۔

سوال ۷: سویاں؟

جواب: کچھ واجب نہیں ہے۔

سوال ۸: خود دیکھنے کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے چاند کو ثابت کرنے کا؟

جواب: (i) اگر ایک شخص کے کہنے سے بھی اطمینان ہو جائے تو چاند ثابت ہو جائے گا۔

دو عادل افراد گواہی دیں کہ چاند ہو گیا ہے تو چاند ثابت (ii)

ہو جائے گا۔

اتنے لوگ چاند نظر آنے کی گواہی دیں کہ یقین حاصل ہو جائے۔ (iii)

سوال ۹: اگر سامنی تحقیق سے کوئی چاند نظر آنے کے بارے میں بتائے تو کیا اسے Follow کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل Follow کرنا ہو گا۔

سوال ۱۰: میرے لیے چاند ثابت ہو گیا ہے مگر میری بیوی نہیں مانتی۔ میں کیا کروں؟

جواب: اگر آپ کی بیوی کے نزدیک ثابت نہیں ہوا تو انھیں مانا بھی نہیں چاہیے۔

سوال ۱۱: پھر کیا ہو گا؟ وہ روزہ رکھے گی اور میں عید مناؤں گا؟

جواب: اس میں مستثنہ کیا ہے؟

سوال ۱۲: وہ سحری کرے گی اور میں منہ دیکھوں گا۔ وہ افطار کرے گی اور میں تماشا دیکھوں گا؟

جواب: آپ کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوا ہے۔ سحری کے موقع پر آپ ناشتہ کر لیجے گا۔ ان کی افطاری آپ کا Dinner ہو گا۔

سوال ۱۳: اور میں دن بھر کھاتا رہوں اور وہ مجھے دیکھے؟

جواب: آپ ان سے اظہار یقینی کے لیے دن بھرنے کھائیں۔ کس مجھتہ نے کہا ہے کہ عید کے دن کھانا ضروری ہے۔

سوال ۱۴: میں آج عید منا رہا ہوں شہر کی اکثریت کل۔ کیا میں کل سب کے ساتھ جا کر جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

جواب: رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔

سوال ۱۵: رجاء مطلوبیت یعنی؟

جواب: اس امید پر کہ یہ عمل خدا کو مطلوب ہے۔

سوال ۱۶: اور باقی Celebrations بھی اگلے دن کر سکتا ہوں؟

جواب: مثلاً؟

سوال ۱۷: مثلاً اگلے مانا، مبارکباد دینا وغیرہ؟

جواب: یہ سب اگلے کئی دنوں تک کرتے رہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے۔

سوال ۱۸: شہروالے آج عید منا رہے ہیں۔ میرے لیے چاند ثابت نہیں ہوا

ہے۔ میں روزے سے ہوں۔ بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ کیا کروں؟

جواب: صحیح سویرے گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے شہر سے اتنی دور چلے

جائیں کہ شرعاً مسافر کہا جاسکے۔ روزہ توڑ دیں۔ واپس آئیں اور

بعد میں اس روزے کی قضاہ ادا کریں۔

### ﴿ خلاصہ ﴾

عید کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کی تین ممکنہ صورتیں ہیں:

(i) چاند نظر آگیا	• کل پہلی شوال ہے      • عید منائیں
	• روزہ رکھنا حرام ہے      • فطرہ نکالیں
(ii) چاند نظر نہیں آیا	• کل 30 / رمضان ہے      • روزہ رکھیں
(iii) نہیں معلوم چاند ہوا یا نہیں	• یہ واجب ہے      • عید پرسوں منائیں

سوال ۱۸: میں نے 30 / رمضان سمجھ کر روزہ رکھ لیا۔ دن میں کسی وقت پڑتے

چلا کہ چاند نظر آگیا تھا۔ میں کیا کروں؟

جواب: روزہ توڑ دیں اور فطرہ نکالیں۔

## فطرہ

- فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔
- یہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی تقویٰت اور سال آئندہ تک حفظ و امان کا سبب ہے۔ (مفائق العجمان)
- آگے فطرہ کے مسائل اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کئے جا رہے ہیں کہ آسانی سے مومنین اپنی ذمے داری پوری کر سکیں۔ تفصیلات کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کریں۔
- ججیہ الاسلام والمسلمین مولانا علی ناصر مہدوی صاحب نے اس حصے کی اصلاح فرمائی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔  
دواو دانی

سوال ۱: فطرہ کون نکالے؟

جواب: جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں:

(i) بالغ ہو (نابالغ پر فطرہ نہیں ہے)

اور

(ii) عاقل ہو (پاگل پر فطرہ نہیں ہے)

اور

(iii) فقیر نہ ہو (فقیر پر فطرہ نہیں ہے)

نوٹ: فقر وہ شخص ہے جس کے اپنے معاشرتی حیثیت (Social Status)

کے لحاظ سے خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہو

اور

(iv) باہوش ہو (بے ہوش پر فطرہ نہیں ہے)

اور

(v) غلام نہ ہو (آزاد ہو)۔

سوال ۲: فطرہ کس کا نکالے؟

جواب: ہر شخص اپنا اور جو اس کے عیال شمار ہوتے ہوں (یعنی اس کے

یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہوں) ان کا فطرہ نکالے چاہے وہ

بالغ ہوں یا نابالغ۔

ذیلی سوال: (i) اگر زید حسن کے گھر کھانے والا شمار ہوتا ہے تو کیا

خود زید پر اپنا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے؟

جی نہیں۔

جواب:

ذیلی سوال: (ii) یہ کیسے پتہ چلے کہ زید حسن کے گھر کھانے والا شمار ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب: اس کا فیصلہ معاشرہ کرے گا۔ اگر معاشرہ زید کو حسن کے گھر کھانے والا شمار کرتا ہے تو زید کا فطرہ حسن پر واجب ہو گا ورنہ نہیں۔

ذیلی سوال: (iii) میرا فطرہ میرے والد پر واجب ہے مگر وہ نہیں نکالتے۔ اس صورت میں کیا مجھ پر اپنا فطرہ خود نکالنا واجب ہے؟

جواب: جی نہیں۔

سوال ۳: فطرہ کتنا نکالے؟

3 کلو چاول
یا
اس کی قیمت

3 کلو آٹا
یا
اس کی قیمت

نوٹ: (i) قیمت نکالنے کی صورت میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آٹے کی قیمت نکالی جائی ہے یا چاول کی۔

(ii) واضح رہے کہ آٹے اور چاول کے علاوہ کسی اور جنس سے بھی فطرہ نکالا جاسکتا ہے۔ مگر اس کی تفصیل ہے جو بڑی کتابوں میں درج ہے۔

سوال ۲: فطرہ نکال کر کس کو دیں؟

جواب: ایسے شیعہ اثنا عشری مومن کو جو:

(i) فقیر ہو (فقیر کی تعریف سوال نمبر ۱ کے جواب میں ہو چکی)

اور

(ii) شرابی نہ ہو

اور

(iii) بے نمازی نہ ہو

اور

(iv) اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو (مثلاً داڑھی Shave کرنے والا یا

بے پردہ عورت نہ ہو)

اور

(v) فطرے کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے والا نہ ہو۔

نوٹ: (i) ایسے شخص کو فطرہ دینے سے ذمے داری پوری ہو جاتی ہے۔

(ii) غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جاسکتا۔

سوال ۵: (الف) فطرہ کب نکالیں؟

جواب: شب عید سورج غروب ہونے کے بعد

سوال ۵: (ب) کب تک نکال لینا ہے؟

جواب: • اگر نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے پہلے،

• ورنہ ظہر سے پہلے پہلے۔

**ذیلی سوال:** میری نظر میں ایک فقیر شخص ہے اور وہ بیان کردہ شرائط پر بھی پورا ارتتا ہے۔ کیا میں اسے عید کی رات سے پہلے یا حتیٰ ماه رمضان سے بھی پہلے فطرہ دے سکتا ہوں؟

**جواب:** آپ اسے قرض دے دیں اور بعد میں عید کی رات اس قرض کو فطرہ کے ساتھ **adjust** کر دیں۔ نیت کریں کہ قرض والی رقم سے فطرہ نکال رہا ہوں۔

**سوال ۶:** کیا فطرہ نکالنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟

**جواب:** جی ہاں۔ فطرہ نکالنا عبادت ہے۔ اس لیے نیت بھی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ صرف یہ ارادہ کہ میں یہ کام حکم خدا انجام دینے کے لیے کر رہا ہوں، نیت ہے اور یہ کافی ہے۔

**سوال ۷:** کیا فطرہ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرہ ہے؟

**جواب:** جی نہیں۔ بلکہ اگر لینے والے کی خودداری مجرور ہو تو بہتر ہے کہ نہ بتایا جائے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ  
ماں رمضان اور شب قدر میں التاس دعا کے ساتھ  
آپ کی آراء اور مشوروں کا منتظر

محمد رضا داؤدی

www.dawoodani.com  
dawoodani@gmail.com